



## سوال

(18) مقام ابراہیم پر پاؤں کے نشان

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مقام ابراہیم علیہ السلام پر پاؤں کے نشانات کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے ہیں۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تاریخی اور تفسیری روایات میں اسی طرح مشہور ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جابليتنا" (تفسیر ابن کثیر 1/118)

یعنی "حضرات ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پتھر میں نمایاں ہیں۔ ہمیشہ سے یہ بات معروف ہے۔ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی اس سے شناسا تھے۔"

تفسیر قرطبی (2/113) میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اثبات نقل کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: (فتح الباری: 8/169) شہرت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کا اصل ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ

ج 1 ص 200

محدث فتویٰ